



## سوال

(239) حاملہ بیوی سے ہم بستری

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میری بیوی حمل کے آخری مرحلہ میں ہے تو کیا اس حالت میں اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اس وقت وہ حمل کے ساتویں مہینے میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

انسان کے لیے دوران حمل اپنی بیوی سے جب چاہے ہم بستری کرنا جائز ہے لیکن اگر ہم بستری سے بیوی کو کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر ایسا کرنا حرام ہے اور اگر اسے نقصان نہیں پہنچتا لیکن تکلیف اور مشقت ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم بستری نہ کی جائے اس لیے کہ بیوی کو تکلیف اور مشقت میں ڈالنا بھی حسن معاشرت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَعَايِرُوا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَبَوَّأُوا مَحَرَّمَهُنَّ بِالنِّسَاءِ ۚ ... سورة النساء 19

"اور ان عورتوں کے ساتھ حسن انداز میں معاشرت اختیار کرو۔"

البتہ بیوی سے حالت حیض میں ہم بستری کرنا حرام ہے اسی طرح پانچنے والی جگہ میں بھی حرام ہے اور حالت نفاس میں بھی جائز نہیں بلکہ حرام ہے مرد کو چاہیے کہ وہ ہم بستری سے اجتناب کرتے ہوئے صرف وہی کام کرے جسے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے دوران حیض اس کے لیے جائز ہے کہ وہ شرمگاہ اور دبر کے علاوہ باقی جہاں استمتاع کرے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

"جماع و ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کرو۔ (مسلم 302- کتاب الحيض باب جواز غسل الخائض راس زوجها و ترجمہ احمد 132/3- دارمی 245/1- ابوداؤد 258- ترمذی 2977- نسائی 187/1- ابن ماجہ 644 بیہقی 313/1، ابن حبان 1352 ابو عوانہ 311/1) (شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ)

صدا ماعندی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ نکاح و طلاق



ص 308

محدث فتویٰ